



سوال

قرآنی سورتوں کے فضائل سے متعلق ضعیف احادیث سے تنبیہ

جواب

الحمد للہ

اول:

اس ویب سائٹ کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ویب سائٹ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کذب بیانی سے بھری پڑی ہے؛ کیونکہ اس ویب سائٹ پر ہر سورت کے متعلق فضیلت ذکر کی گئی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بازی ہے، یا پھر یہ فضیلت جناب علی رضی اللہ عنہ یا جعفر صادق رحمہ اللہ یا کسی اور شخصیت سے منتقل ہے۔

انہی جھوٹ کے پلندوں میں سے یہ ہے کہ:

"جو شخص ہر جمعہ کو سورت النساء پڑھے تو وہ قبر کے دباؤ سے محفوظ رہے گا، جو شخص سورت مائدہ پڑھے تو وہ پوری دنیا میں موجود زندہ یہودی اور عیسائیوں کی تعداد سے بھی دس گنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا، اتنی مقدار میں اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی، ایسے ہی سورت اعراف کو عرق گلاب سے لکھنا یا زعفران سے لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنے پر انسان دشمنوں اور مومذی جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، جو شخص ہر ماہ سورت انفال اور سورت توبہ پڑھے تو وہ نفاق سے محفوظ رہتا ہے، اور سورت "ص" کی تلاوت داود علیہ السلام کے پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہے، اور جو شخص سورہ زمر پڑھے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جو شخص ہر تین دن میں سورت غافر پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص سورت سجدہ پڑھے تو اس کے سانسے روز قیامت تک نور روشن ہو جاتا ہے۔۔۔" اس علاوہ دیگر بہت سے جھوٹ انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔

دوم:

یہ کہنا کہ "جو شخص سورہ رحمن، واقعہ اور الحدید تسلسل کے ساتھ پڑھے تو یہ عمل اس کے لیے جنت الفردوس میں جگہ مکی ہو جانے کا ضامن ہے" یہ بے بنیاد اور بے دلیل بات ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے کے زمرے میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔

ہمیں ان سورتوں کے فضائل میں کہیں یک جا یا الگ الگ ایسی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہو سکی۔

جبکہ یہ حدیث کہ: (ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے اور قرآن مجید کی دلہن سورت رحمن ہے) یہ منکر روایت ہے، مزید تفصیلات کیلئے دیکھیں: سلسلہ احادیث ضعیفہ از البانی رحمہ اللہ (1350)

اور یہ حدیث کہ: (جو شخص سورت واقعہ ہر رات کو پڑھے تو اسے کبھی فاقہ کشی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا) یہ بھی ضعیف ہے اس کی مزید تفصیلات کیلئے دیکھیں: سلسلہ احادیث ضعیفہ از البانی رحمہ اللہ (289)

یہ حدیث کہ: (جو شخص سورت حدید پڑھے تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے) یہ من گھڑت روایت ہے، اس بارے میں تفصیلات جاننے کیلئے



دیکھیں: "السراج المنیر" (219/4) از خطیب شریعی، اور اسی طرح "الفتح السماوی" (921) از مناوی۔

سوم:

ائمہ کرام نے فضائل قرآن کے متعلق متعدد تصانیف کی ہیں جن میں سے اہم ترین یہ ہیں:

فضائل قرآن، از: قاسم بن سلام

فضائل قرآن، از: ابوالفضل رازی

فضائل قرآن، از: ضیاء مقدسی

فضائل قرآن، از: فریابی

فضائل قرآن، از: ابن ضریس

فضائل قرآن، از: مستغفری

فضائل قرآن، از: محمد بن عبدالوہاب

ان کتب میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، تاہم کچھ کتابوں کی مجموعی حیثیت دیگر کتابوں سے بہتر ہے۔

فضائل قرآن کے بارے میں صحیح ترین تصانیف میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

1- فضائل قرآن، از: حافظ ابن کثیر دمشقی

2- الصحیح والستقیم فی فضائل القرآن الکریم، از: جمعیت الحدیث الشریف

3- الصحیح المسند من فضائل السور، از حسان بن عبدالرحیم

4- صحیح فضائل القرآن، از: مؤید عبدالفتاح حمدان

واللہ اعلم